

انجيل زاگان ء په
ماس پس

اولی ایسٹر



نوشتہ کار: Edward Hughes

السٹر کار: Janie Forest
Alastair Paterson

اپنائنگ کار: Lyn Doerksen

مترجم کار: www.christian-translation.com

پیداوار کار: Bible for Children
www.M1914.org

©2020 Bible for Children, Inc.

لائسنس: ترا حق استیں کہ تہو این قصہ ء کاپی او پرنٹ کڑت کنے،
تا وخت ء کہ تہو اشی ء سودا نہ کنے۔



زال سرء اير پاد بو كنوك شوركنگ ء

كوه ء نزيك ء, آئي, ايشي

گم, مونجا گندگ دنكرء

چماں يك خوفناك زيد

آئي, ايشي نٲت مرگ

بچك مات, ماس مريم

نٲن, پاد يات نزينك

جاه ر آكجا يسوع

نٲت تاں يك

گگوز نٲگاؤ-





اے کل چون بو؟ چون يسوع
یک زیبائیں زندگی ء انچو
ہطرناک ختم کڑت کنت؟ خدا
وتی زاگ ء دار
ء سر ء میخ
کنگ ء اجازت
دات کڑت کنت۔

چه يسوع ہر چیز ء پہ ات
آگلط بو؟ چه خدا ناکام بو۔



نه! خدا ناکام نه بو- يسوع بچ
گلطي نه کړتت- يسوع هر
وخت زانتت که آلالچي ء
مړدmani دستاں مرگ بي-
وخته که يسوع يک زاگ ء
ات، يک پير ء مړدم سائمن
نامي مريم ء گشتت که
فريشاني ديما انت-



يسوع ۽ ڪشڪ ۽ چه
چند روچ پيش، يڪ زال
۽ وش بو آئي ۽ پادانا تها
ريت۔ "آ زر ۽ زائع ڪنگ
انت،" شاگردان شڪايت
ڪرت انت۔ "آ جوانين ڪار ۽
ڪرتا،" يسوع گشت۔ آ "آ اشي ۽ مني
ڪين دين ۽ په ڪرتا" چه عجب ۽ لوز!



ايشى بچ پس۔ يسوع ء
دوانزده شاگرد انچه يك
شاگرد يهوداس چاندى ء
30 ٹوٹہ ء بيوض يسوع ء
سردار ء په دھوكه دات۔




يهوده فسع ء تقريب ء، يسوع وتى
آخري ء نغن ء وتى شاگردان ء گونا
وارٽ. آ آئيانا خدا ء باروا گچينين
چيزاں او وعده ٻاں كه آيانه واسته
ء آ آئى ء گونا محبر كڙت گوشت. پدا
يسوع آئياناں يك نان او پيالہ تقسيم ء
په دات. آ آئيانى ياد گرى ء كه

يسوع ء جسم او
ٻون گناٻانى معافى
ء په ديگ بوتنت.



پدا يسوع وتى سنگراناں گوشت کہ آ دھوکہ دیگ بیت۔ او آ
تچہ، "من نہ تچی" پیٹر ضد کڑت۔ "بانگوں ء بانگ ہچ
پیش، تہوں منی انکار ء سہ وار کنے،" يسوع گوشت۔





بادا ٻهو شيءَ، يسوع
گيتسمان ۽ باگ ۽ دعا ۽
په شت۔ شاگردان ڪه آئي
۽ گونها تيان واپ شتنت۔
"ٻو مني پس،" يسوع
دعا ڪرت، "۔۔۔ اے پيالہ
۽ من ٻچ گزگ ۽ بل۔
ٻهر حال، مني مرضي ۽
نہ۔ تهي مرضي ۽۔"



اچانک یک رش باگ ء
تہا داخل بوت۔ آئیانی
سردار یہوداس بوت۔
یسوع مزاحمت نہ کو،
بلہ پیٹر یک مڑدم ء
گوش ء برت۔ خاموشی ء
مڑدم ء گوش ء دست زت
او موشکت۔ یسوع زانت
کہ آئی ء گرپاری خدا
ئی پررضی انت۔



رئس يسوع ء اعلى ء پجارى ء لوگا بڑت۔ آده، يهودى
سربراهان گوشت كه يسوع مرگ بى۔ نزيك، پيتر پاد يات
غلام ء كر آج ء او ديست۔

سه وار مردمان پيتر ء
اشاره كرنتت او گوشتت كه
"تهو يسوع ء گونا بوتنت

انت!" سه وار پيتر
انكار كرنت۔ بنچو كه

يسوع گوشتت۔ پيتر


حالانكه قسم

واڑت او ملعون

بوت۔




کوک۔ ا۔ ڈوڈل۔ ڈو




ہمو وختاں، یک مرگ ء
بانگ دات۔ اے انچو پیڑ ء
پہ خدا ء توار بوت۔ یسوع
ء لوزاناں یاد کنگ ء پہ،
پیڑ زار زار گریت۔





يوداس بي پشوان ات، آ زانت
که يسوع مجرم و قصوروار
ء نيت، يهوداس چاندى ء 30
ٹوٹہ انا پس دات، بلہ پجاری
آيانا پس نہ گت۔





یهوداس پیسه انا جالا
چغل دات، او دنا شت او
وتارا دارا پهانسی دات۔






پجاری يسوع ء پائلٹ ء ديما يارٽ،
روم ء گورنر، پائلٹ گشت، "من اے
مردم آہج قصور ء نہ ديستن،" بلہ
رش گريوگ شروع کرٽ،
"ايشا دار ء لٹکائين،
ايشا دار ء لٹکائين!"



آخر پائلٹ دات، او يسوع ء يك صليب
ء مرگ ء سزا دات۔ سپاہی يسوع ء فينٹ
جتان، چہرہ ء تف کڑتنت، او گرتنت ء،
آئيا خار ء تاج ٹھائنتنت او آئی ء سر ء
مان کڑتنت ایش۔ پدا آ یک دارئیں صليب
ء آئی ء مرگ ء پہ ميخ جتنت۔



يسوع هر وخت زانت كه آهمي ٿولا مري. آهمي بي زانت
كه آئي مرگ معافي گماهاني كاري آ آياني يقين يارٿ. دو
مجرم يسوع ء نزيبك دار ء
لٽكائينٿگ بوتان. يك يسوع
ء يقين كٽٿت. او جنت ء
شت. او دومي نه كٽٿت.



گھنٹھانی دڙد بچ پس، يسوع
گوشت،: "اے ختم بوت،" او
مڙت، آئی ء کار مکمل ات۔
سنگتاں آئی اره یک
جتا ء مزار ء تها
دفن کڙتنت۔



رومانی سپاہی مزار
ء سیل آ سیل کڑتنت
او پیرہ دانتنت۔ نو کس
تہا شتنت۔ یا ڈنا
کائینت کڑتنت۔



اگہ اے قصہ ء آخر انت،
اے چقدر پریشاب کن بی۔
بلہ خدا یک گچینیں چیز
ء کڑت۔ یسوع مرگ
نہ اشتات۔



ہفتہ اولی ریح ء صوبان،
یسوع ء یک شاگرد دیست
کہ قبر ہچے سنگ ریڑ
کڑتاں۔ وختہ کہ آتھا
دیسٹ، یسوع
دیگہ آدہ نیت۔



یک زال اشتاتگ ات، مزار ء
گریوگ ات۔ یسوع آئی ء نمودار
بوتت! آوشی ء تہا تچت کہ دگہ
شاگردانہ گوشی، "یسوع زندگ
انت! یسوع مرگ بچے پس
یاتگ ات!"



زوت يسوع شاگردان ء يات، او آياناں وتى
ميخ جنوك- ہوفناكين دستانا نشان دات، اے
راست ات۔ يسوع پس زندہ ات! آ پيٹر ء وتى
انكار ہچ معاف كرت، او وتى شاگردان ء
گوشت کہ آئى ء باروا ہر يك ء گوشين، پدا آ
جنت ء شت ہر جاہ ء کہ يانت۔



اولی ایسٹر

یک قصہ ء خدا ء لوزان، انجیل

تہا دیدگ بوتہا

میٹوں 26-28، لئیوک 22-24،

جاہن 13-21

"تہی لوزانی دلچسپی روشنائی دات۔"

پ س ا ل م 130:119





انجیل مارا مہے خدا وند ء بارہ ء گوشى۔
آ کہ مارا بنائینت او ہمے لوٹی کہ ما آئی ارہ درست بکناتیں۔

خدا وند زانى کہ ما غلطیں چیز کڑتا، آئارہ خدا وند گنا گوشى؛ گنا ء سزا
موت انت، لیکن خدا وند ترہ بہار دوست کنت او آوتی پاک ء زاگ چیزس ء
دیم دات کہ تہی واسطہ بمری او سزا بزوری، چیزس زندہ بوت یات او پس
جنت ء شو! اگہ تہو چیزس ء باور کنے او آئی ہچے وتی گناپانی معافی لوٹے،
آ کنت، آ نو کائی او تہی گونا بہی، او تہو آئی ء گونا ہمیشہ ہمیشہ ء بہے۔

اگہ ترا یقین کیت کہ اے راست انت، تو خدا آ گش:
جوانین عیسی، منہ یقین انت کہ تو خدائے، او منی گناہانہ پہ مرگہ
پہ یک مردم بھوتیں، او تون پس زندہ۔ مہربانی کن منی زندگی آتہا بیا
و منی گناہانہ مراگ کن، تاکہ من نوکیں زندگی ء گندی، او یک یک روچہ
ہمیشہ پہ تئی گونہ بی۔ تئی اطاعت پہ او وتی زاگے ڈول آتئی واستہ
پہ زندگ بئیگہ پہ منی کمک آکن۔ آمین۔

بائبل آ وان و گون ہدا ہر روچ گپ کن۔ جان 3:16

